



AlBurooj

البروج

آلبروج

**In the name of Allah,
Most Gracious, Most
Merciful.**

**1. By the heaven with
mansions of stars.**

**2. And the day,
promised.**

**3. And the witness
and that which is
witnessed.**

**4. Destroyed were the
people of the ditch.**

**5. The fire fed by
the fuel.**

**6. When they sat
by it.**

**7. And they, to what
they were doing with
the believers, were
themselves witnesses.**

**8. And they resented
them not except that
they believed in Allah,
the All Mighty, the
Self Praiseworthy.**

الله کے نام سے جو بہت مہربان
نہایت رحم والا ہے۔

آسمان کی قسم جو برجوں والا ہے۔

اور وہ دن جس کا وعدہ ہے۔

اور شادت دینے والے کی اور وہ
جیکی شادت دی جائے۔

ہلاک کر دینے کے خندقون والے۔

آگ جھونکی ہوئی ایندھن کی۔

جب وہ اسکے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔

اور وہ اسپر جو کر رہے تھے اب ایمان
کے ساتھ۔ وہ اسکو خود دیکھ رہے تھے۔

اور نہیں بد لہ لیا ان سے مگر یہ کہ وہ
ایمان لائے تھے اللہ پر جو غالب
سب خوبیوں والا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّمَاءُ إِذَا تَبَرَّجَ

وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ

وَشَاهِدٍ وَّمَشْهُودٍ

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ

النَّارِ إِذَا أُوقُودٌ

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ

وَهُمْ عَلٰى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ
شُهُودٌ

وَمَا نَقْمُدُ مِنْهُمْ إِلَّا آنِ يُؤْمِنُوا

بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

9. He, to whom belongs the dominion of the heavens and the earth. And Allah, over all things, is a witness.

وَهُوَ كُلُّ بَادِشَاهٍ يَبْشِّرُ بِآسَانُولٍ وَزَمِنٍ مِنْ مِنْ أَرْضٍ وَأَمْرٍ وَاللهُ هُرْجِيزٌ سَيِّدٌ وَقَنْتَنْ

الَّذِي لِهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

10. Indeed, those who tortured the believing men and the believing women, then did not repent, for them is the punishment of Hell, and for them is the punishment of burning.

بِيشِكْ وَهُوَ لُوكْ جِنْوُنْ نَتْكِلِيفِينْ دِيْنِ مُومِنْ مِرْدُولْ وَمُومِنْ عُورَتُولْ كُوْپَھْرَ نَهْ كِيْ تُوبَهْ تُواْنْ كُوْهْ گَ عَذَابَ دُونْخَ كَاوَرَانْ كُوْهْ گَ عَذَابَ جُلْنَےْ كَا.

إِنَّ الَّذِينَ فَتَّنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوْبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ طَالِحٌ

11. Indeed, those who believed and did righteous deeds, for them are Gardens, flow beneath which rivers. That is the supreme success.

بِيشِكْ وَهُوَ لُوكْ جُوْ إِيَانْ لَائَهْ اُورْ كَرْتَهْ رَهْبَهْ نِيكْ اعْمَالَهْ اَنْ كَهْ لَئَنْ مِنْ بَاغَاتَهْ بَهْ رَهْيَهْ مِنْ جَنْكَهْ يَنْجَهْ نَهْرَيْلَهْ - يَهِيْ بَهْ بُرْدَيْ كَامِيَابِيْ -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ

12. Indeed, the grip of your Lord is very severe.

بِيشِكْ گُرفَتْ تَهَارَهْ رَبَّكَ بَهْ سَختَهْ بَهْ -

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

13. Indeed, it is He who originates, and He will repeat.

بِيشِكْ وَهِيْ بَهْ جُوْ پَهْلَى مَرْتَبَهْ پَيْدَا كَرْتَهْ بَهْ اُورْ وَهِيْ دُوْبَارَهْ لَوْمَادَهْ گَا.

إِنَّهُ هُوَ يَعِيدُ وَيُعَيِّدُ

14. And He is the All Forgiving, the All Loving.

اُورْ وَهُوَ بَهْ بَخْشَهْ وَالاً بَهْ مَجْبَتَهْ كَرْنَهْ وَالاً -

وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ

15. Owner of the Throne, the Exalted.

عَرْشَ كَامِلَكَ بُرْدَيْ عَظِيمَتَهْ وَالاً -

ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

16. Doer of whatever He intends.

كَرْ گَزْنَهْ وَالاً جُوْ چَاهَتَهْ بَهْ -

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

17. Has there reached you news of the hosts.	کیا پہنچی ہے تکوہ بہ لشکروں کی۔	ھل آتیک حَدِیْثُ الْجُنُودِ v
18. Pharaoh and Thamud.	فرعون اور ثمود کی۔	فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ط w
19. But those who disbelieved, (persist) in denying.	بلکہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا (لگ میں) بھٹلانے میں۔	بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ h
20. While Allah, from all around them, is encompassing.	حالانکہ اللہ انکو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔	وَاللَّهُ مِنْ وَرَاءِهِمْ هُنَّ مُحْيَطُونَ ح r
21. Nay but, this is a Quran, Glorious.	بلکہ یہ ہے ایک قرآن عظیم الشان۔	بَلْ هُوَ قُرْآنٌ بَّيِّنٌ n
22. In the tablet, guarded.	تخنی میں حفاظت والی۔	فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ ع m

